

درخواست کا طریقہ کار

مرحلہ 1: اپنی اہلیت کیلئے دستاویزات تیار کریں

افزائشی خدمات برائے بالغان، کو درخواست دینے کیلئے آپکو ثابت کرنا ہوگا کہ آپکو افزائشی معزوری ہے، آپکی اونٹاریو میں رہائش ہے، اور آپکی عمر 18 سال ہے۔ یہ خدمات منسٹری آف چلڈرین، کمیونٹی اینڈ سوشل سروسز (ایم سی سی ایس ایس) کی مالی امداد سے افزائشی خدمات اونٹاریو (ڈی ایس او) کے ذریعے چلتی ہیں۔

مجھے یہ ثابت کرنے کیلئے کون سی قسم کی دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہے؟

ہر ایک مندرجہ ذیل درج ذیل شعبے کیلئے آپ کو ایک دستاویز ڈی ایس او کو فراہم کرنا لازمی ہے:

1. آپکی افزائشی معزوری

یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آپ کو افزائشی معزوری ہے، آپ کو ایک تحریری نفسیاتی تشخیص کی ضرورت ہوگی جو ایک ماہر نفسیات یا نفسیاتی ایسوسی ایشن کے ایک رکن کی طرف سے ہونی چاہئے۔ اگر آپکے پاس نفسیاتی تشخیص نہیں ہے تو براہ مہربانی اپنے علاقے کے ڈی ایس او سے رابطہ کریں وہ آپ کے ساتھ آپکے اختیارات کا جائزہ لیں گے تشخیص میں مندرجہ ذیل عناصر شامل ہونا ضروری ہیں:

a. آپکے ادراکی عمل کے بارے میں معلومات

اس کا مطلب آپکی عقل استعمال کرنیکی، منتظم ہونیکی، منصوبہ بنانیکی، فیصلے کرنیکی اور نتائج کی شناخت کرنے کی صلاحیت سے ہے۔ یہ عام طور پر ایک IQ ٹیسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

b. آپکی مطابقت پذیری سے متعلق معلومات

اس کا مطلب آپ کی آزادی حاصل کرنے، اور روزمرہ کی زندگی میں مہارتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت سے ہے۔

اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل مہارتیں شامل ہے:

- تصوّراتی مہارتیں جیسے، پڑھنا، لکھنا، ریاضی اور پیسے کا حساب کتاب۔
- سماجی مہارتیں جیسے کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ میل جول۔
- عملی مہارتیں جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کام کی مہارتیں، اردگرد نقل و حمل کا استعمال، اپنی صحت اور تحفظ کی دیکھ بھال، نظامل اوقات اور معمول کی پیروی۔

c. معزوری کے آغاز کی عمر سے متعلق معلومات

اگر آپ اپنی تشخیص 18 سال کی عمر ہونے کے بعد کرواتے ہیں، یا اگر آپکی معزوری 18 سال کی عمر سے پہلے شروع ہوئی تھی اور تمام عمر جاری رہنے کا امکان ہے، تب ماہر نفسیات کو یہ بتانا چاہیے۔ اگر آپ تشخیص 18 سال کی عمر سے پہلے کرواتے ہیں، تب معزوری کے آغاز کی عمر کے متعلق کوئی معلومات نہیں چاہیے ہونگی۔

2. اونٹاریو میں رہنے والے

- صحت کارڈ
- مکان کی لیز یا کرایانامہ
- ODSP کیلئے براہ راست بینک ڈپازٹ کا فارم
- بینک اکاؤنٹ کے بیانات جن پر آپکا پتہ ہو
- ڈرائیور لائسنس یا دیگر حکومت سے جاری کردہ تصویری شناخت

3. عمر

- پیدائش یا باپٹسمیل سرٹیفکیٹ
- پاسپورٹ
- ڈرائیور لائسنس

مرحلہ 2: اپنے علاقے کے ڈی ایس او کو کال کریں

درخواست کا عمل شروع کرنے کیلئے، اپنے علاقہ کے ڈی ایس او کو فون کریں۔ ڈی ایس او کے جس شخص کے ساتھ آپ بات کرینگے وہ آپسے سوالات کریگا یہ دیکھنے کیلئے کہ آپ درخواست دینے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اہلیت کے تمام دستاویزات (مرحلہ 1 سے) ہیں، جن سے ثابت ہوسکے کہ آپ/کو:

- ایک افزائشی معذوری ہے،
- اونٹاریو میں آپکی رہائش ہے، اور
- آپکی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے۔

یہ سب معلومات حاصل کرنے میں کچھ وقت لگے گا، لہذا آپکی پہلی کال 30 منٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔

اگر کسی بھی وقت آپ کو کال روکنے کی ضرورت ہو تو، آپ کی مشترکہ معلومات کھو نہیں جا ئیگی۔ وہ بس انتظار کی حالت میں رہینگے، تاوقتیکہ آپ دوبارہ درخواست کے اس حصے کے عمل کو مکمل کرنے کیلئے ڈی ایس او کو کال کریں۔ تمام صحیح دستاویزات کے ساتھ، آپ کی 16 سال کی عمر میں افزائشی خدمات برائے بالغان کی اہلیت کی تصدیق کی جا سکتی ہے، تاہم، 18 سال عمر ہونے تک خدمات شروع نہیں ہونگی۔

مرحلہ 3: اپنی درخواست مکمل کریں

اگر آپ ایم سی سی ایس ایس کی مالی خدمات وصول کرنے کے اہل ہیں، تو آپکو مطلع کرنے کیلئے اپنے علاقے ڈی ایس او سے ایک خط موصول ہوگا، اگر آپ اہل ہیں، تو آپکو اپنے علاقے کے ڈی ایس او کے ایک تشخیص کار سے منسلک کیا جائے گا۔ تشخیص کار آپ کو ایک درخواست کا پیکیج مکمل کرنے اور آپ کی ضرورت کی حمایت کی سطح کا تعین کرنے میں مدد کے کیلئے آپکے ساتھ دو ملاقاتیں طے کریگا۔

ہر ملاقات تقریباً 3 گھنٹے تک ہوگی اور آپ کو اپنے ساتھ، کم سے کم 2 افراد کی ضرورت ہوگی، جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہوں (مثلاً، والدین، سرپرست، استاد، وغیرہ)۔

ایک بار جب تشخیص کار کو آپ کی ضروریات کا اندازہ ہو جائیگا، آپکو اپنے علاقے میں دستیاب خدمات سے جوڑ دیا جائے گا۔

مرحلہ 4: رابطے میں رہیں

آپکو اپنی خدمات اور حمایت حاصل کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اس دوران، اگر آپکے حالات یا معلومات میں کوئی بھی تبدیلی ہو، تب اپنے علاقے میں ڈی ایس او کو بتائیں۔



ہم سے رجوع فرمائیں!

dsontario.ca

نومبر 2018